

قدرتی علاقے

کراہ ارض پہ بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں۔ ہوا میں، زمین پر اور سمندر میں۔ یہ جگہں حیاتیات کہلاتی ہیں۔ حیاتیات کو ہم مختلف حیاتی خطوں میں بانٹتے ہیں۔ حیاتی خطے وہ قدرتی علاقے ہیں جہاں نباتاتی زندگی، بارش اور درجہ حرارت کافی ملتا جلتا ہے۔ حیاتی خطہ بڑے علاقوں اور کئی برعظموں پہ پھیلا ہوا ہے۔

یہ تحریر زمین پر پائے جانے والے حیاتی خطہ کے بارے میں ہے۔

ٹنڈرا کا خطہ

ٹنڈرا ایک بڑا علاقہ ہے جہاں سال بھر زمین پر ٹھنڈ کی وجہ سے برف کی تہ جمی رہتی ہے۔ گرمیوں میں زمین کی صرف اوپری تہہ پگھل پاتی ہے۔ ٹنڈرا میں درخت نہیں اُگتے۔ ٹنڈرا زیادہ تر روس، کینیڈا اور آلاسکا میں پایا جاتا ہے۔



ٹنڈرا شمالی روس میں (annatronova, Adobe Stock)

صحرا {ریگستان}

ریگستان ایک بڑا اور خشک علاقہ ہے جو پتھر اور ریت سے بھرا ہے۔ صحارا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔



صحارا (Gaper, Shutterstock).

سوانا منطقہ حارہ کا ایک بڑا علاقہ ہے { خطہ سرطان اور خطہ جدی کا درمیانی حصہ }

سوانا ایک بڑا علاقہ ہے جہاں اونچی گھاس اور درخت فاصلے سے اُگتے ہیں۔ افریقہ میں بڑے بڑے سوانا پائے جاتے ہیں۔



سوانا منطقہ حارہ سومالیہ میں (25ehaag6, Adobe Stock).

منطقہ معتدلہ - گھاس کا میدان

زمین پر منطقہ معتدلہ، گھاس کا میدان جو جنگلات کے بغیر وسیع علاقہ ہے۔ ان علاقوں کی زمین زراعت کے لئے بہت زرخیز ہے، لہذا منطقہ معتدلہ کے بڑے حصے کھیتی باڑی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ منطقہ معتدلہ کے میدان ایشیا، شمالی اور جنوبی امریکہ کے گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔



ترکی میں منطقہ معتدلہ کا میدان (Engin Korkmaz, Adobe Stock).

بارش کے جنگلات

بارش کے بڑے اور سرسبز جنگلات خطِ استوا کے قرب و جوار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امازون جنوبی امریکہ میں بارش کا جنگل ہے۔



بارش کے جنگلات جنوب مشرق ایشیا (quickshooting, Adobe Stock).

سوالوں کا صحیح جواب تلاش کریں۔

1. اُن علاقوں کو کیا کہا جاتا ہے جہاں کی نباتاتی زندگی، بارش اور درجہ

حرارت ملتا جلتا ہے؟

ا. حیاتی خطہ ب. حیاتیات ت. ٹنڈرا

2. خطِ استوا کے گرد پھیلے ہوئے سرسبز اور وسیع جنگلات کو کیا کہتے

ہیں؟

ا. منطقہ معتدلہ ب. ٹنڈرا ت. بارش کے جنگلات

3. وسیع ریتیلہ اور پتھریلا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟

ا. صحرا {ریگستان} ب. ٹنڈرا ت. بارش کے جنگلات